

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

وزیرستان

(ن)

کتاب: _____ وفيات مشاہیر وزیرستان

مصنف: _____ اے۔ آر۔ حیدر داؤد

03009063525

کمپوزر: _____ احمد (آرٹ پوائنٹ)

پروف ریڈنگ: _____ پروفیسر جاوید جان

سال طباعت: _____ اگست 2020ء

طباعت: _____ آرٹ پوائنٹ صدف پلازہ پشاور

03159618253

تعداد: _____ 500

ٹ (نار)

Ketabton.com

دیباچہ

ہمیں معلوم ہے کہ وفیات نگاری تارتخ یا علم رجال کی وہ شاخ ہے جس میں اپنے اپنے عہد کے شہیر شخصیات کی تارتخ وفات کا کھوج لگایا جاتا ہے اور محفوظ کیا جاتا ہے۔ جس طرح وفیات نگاری کا آغاز مسلمانوں نے کیا ہے اور جس طرح پاکستان میں پروفیسر محمد اسلم کو وفیات نگاری پر کام کرنے میں اول مقام حاصل ہے، اسی طرح اے۔ آر۔ حیدر داوڑ کو تاقیامت یہ اعزاز حاصل ہی رہے گا کہ شمالی وزیرستان میں وفیات نگاری پر سب سے پہلے قلم اٹھانے والے اے۔ آر۔ حیدر داوڑ تھے۔ جس کا اسم گرامی تارتخ میں زندہ و تابندہ رہے گا۔ نوجوان نسل کا نمائندہ ادبی ذوق رکھنے والا یہ نوجوان بجا طور پر داد و تحسین کا لائق ہے اور باعث افتخار بھی۔

ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ

پروفیسر جاوید جان

سرپرست اعلیٰ، وزیرستان پشتو ادبی جرگہ/

وزیرستان ادبی فورم (شمالی وزیرستان)

اگست 2020ء

انتساب

کائنات کی انمول ہستی

ماں

کے نام

وفیات نگاری، پس منظر و پیش منظر

وفیات نگاری، تاریخ اور علم رجال کی وہ شاخ ہے جس میں مولفین اپنے عہد اور عہد ما قبل کے مشاہیر کی تاریخ وفات کا کھوج لگاتے ہیں اور ساتھ ہی ان مشاہیر کے بارے میں مختصراً دیگر تفصیل بھی فراہم کرتے ہیں اور آنے والے زمانوں کے لیے یہ معلومات محفوظ کر دیتے ہیں۔ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں وفیات نگاری، تاریخ کی ایک اہم شاخ سمجھی جاتی ہے اور ان کی زبانوں میں اس موضوع پر معتد کتب لکھی جا چکی ہیں۔ مسلمانوں کو جہاں تاریخ نویسی اور علم رجال میں دنیا پر فوقیت حاصل ہے وہیں انھیں بجا طور پر وفیات نگاری کا بانی سمجھا جاتا ہے اور عربی میں اس موضوع پر اولین کتاب کا سراغ دوسری صدی ہجری میں ملتا ہے۔ اس موضوع پر قدیم ترین کتاب یعقوب بن سفیان الفسوی (۲۷۷ھ) کی ہے جس کا نامکمل نسخہ دستیاب ہے۔ اس کے بعد پانچ صدیوں میں اس فن میں کئی کتابیں لکھی گئیں مگر اس سلسلے میں سب سے معتبر اور مؤثر کتاب ”وفیات الاعیان و انباء الزمان“ ہے جسے ابو العباس شمس الدین المعروف ابن خلکان نے 1256ء تا 1273ء میں قاہرہ میں تصنیف کی۔ عربی سے یہ فن فارسی میں آیا اور فارسی میں اس فن پر درجنوں کتابیں موجود ہیں۔ وفیات الاعیان کے فارسی کے علاوہ ترکی اور اردو تراجم بھی ہوئے۔ ترکی زبان میں بھی وفیات نگاری کو ایک مسلمہ حیثیت حاصل ہے اور اس موضوع پر متعدد کتب چھپ چکی ہیں۔ اردو میں وفیات نگاری پر لکھی گئی اولین کتاب ”آسودہ ڈھاکہ“ کے نام سے حکیم حبیب الرحمن نے لکھا تھا جو اکتوبر 1946ء کو شائع ہوا، اس کتاب میں ڈھاکہ اور اس کے مضافات کے قبرستانوں میں مدفون مسلمان بزرگوں اور ممتاز شخصیات کا تذکرہ ہے۔ ہندوستان میں بھی اردو زبان میں خالصتاً وفیات کے حوالے سے چند تصانیف ملتی ہیں جیسے تذکرہ ماہ و سال از مالک رام (1991)، وفیات مشاہیر اردو از بشارت علی خان فروغ (2000ء) اور ڈاکٹر سید شاہد اقبال کی وفیات مشاہیر بہار قابل ذکر ہیں۔ اس سے پہلے وفیات الاعیان الہند کے نام سے ڈاکٹر ابوالنصر محمد خالدی نے سلاطین و امرا اور صوفیا و مشائخ کے مختصر حالات زندگی اور تاریخ وفات

وفیات مشاہیر وزیرستان

جب میں ریڈیو پاکستان میں ایک پروگرام ہوسٹ کر رہی تھی تب سے میں اے۔ آر۔ حیدر داؤڈ کو جانتی ہوں۔ نہایت محنتی قلم کار، باادب اور مخلص انسان پایا۔ اب انہوں نے ”وفیات مشاہیر وزیرستان“ کے نام سے جس ادق کام کو بخوبی نبھایا وہ نہایت لائق تحسین ہے۔ میری دعا ہے کہ اے۔ آر۔ حیدر داؤڈ مدارج ترقی میں سرفراز و ظفر یاب ہو۔

گوزیل تاشفین داؤڈ

بنی گالہ، اسلام آباد

وفیات مشاہیر وزیرستان

آج کل کے مشینی دور اور اس مصروف زندگی میں ہر شے یاد رکھنا یا ہر شے کے بارے میں علم ہونا اگر ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اس تناظر میں ایک ایسی کاوش جو مستقبل کی تاریخ ان پر ناز کرے، میرے ایک معزز دوست اور محنتی قلم کار اے۔ آر۔ حیدر داؤڈ نے دل جمعی اور خوش اسلوبی سے انجام دیا ہے۔ زیر نظر کتاب میں وزیرستان کے علماء، صوفیاء، شعراء اور اہم شخصیات کی تاریخ وفات محفوظ کر دی گئی ہے جو ایک گراں کام ہے۔ مجھے امید ہے کہ اے۔ آر۔ حیدر داؤڈ کی یہ کاوش ہر لحاظ سے سراہا جائے گا۔ روشن مستقبل کے لئے دعا گو ہوں۔

الہام وزیر۔ دوسلی

(شمالی وزیرستان)

وفیات مشاہیر علماء / فقہاء

حضرت میر واعظؒ

صاحب حال پیر، عالم باعمل، اعلیٰ روحانی پیشوا حاجی دوست محمد قندھاریؒ کے مرید خاص، محمد نذیر رانجھانے قوم اور قبیلہ دوڑ لکھا ہے۔ یاد رہے گاؤں حسوخیل داوڑ تحصیل میر علی میں داوڑ خیل کے نام سے ایک شاخ موجود ہے (قیاساً) وفات 1880ء کی دہائی۔ مأخوذ: خانقاہ احمدیہ سعیدیہ از: محمد نذیر رانجھا

مولانا غازی میر جان وزیر

تعلق گاؤں میر علی وزیر (تحصیل پشین وام)، خلیفہ عبداللطیف کے والد ماجد / خلیفہ خاص فقیر اپنی / علمائے پشتونستان کے صدر / فاضل دیوبند، وفات: 1942ء

مولانا عبدالرحمان المعروف تورملا

تعلق گاؤں عیدک داوڑ (تحصیل میر علی) / گورویک میں مشاوری کونسل کے صدر / اخبار پشتون دن اور غازی کے ایڈیٹوریل بورڈ کے ممبر / منتظم اعلیٰ پشتونستان / رجسٹرار گورویک مرکز / دیوبند سے فراغت 1924ء / وفات: 1947ء

مولانا پندیر محمد داوڑ

تعلق گاؤں عیسوڑی (تحصیل میر علی)، فاضل دیوبند / ہندو نہدی کتاب رگ وید کے مترجم / فارسی شاعر / دیوبند سے فراغت: 1925ء / وفات: 1950ء

مولانا میر اظہر خان المعروف خلیفہ صاحبؒ

تعلق گاؤں حسوخیل داوڑ (تحصیل میر علی) پیر زین الدین البغدادیؒ کے خلیفہ و مرید خاص / جید عالم دین و روحانی پیشوا / وفات: 1950ء

بھی قلم بند کیے تھے۔ پاکستان میں پروفیسر محمد اسلم کو وفیات نگاری پر کام میں اولیت کا اعزاز حاصل ہے جنہوں نے تقریباً چار ہزار ممتاز پاکستانی شخصیات کی وفیات مرتب کی ہیں۔ وفیات پر ان کی چار کتب طبع ہوئیں۔ جن میں وفیات مشاہیر پاکستان، وفیات اعیان پاکستان، خفگان کراچی اور خفگان خاک لاہور شامل ہیں۔ پروفیسر محمد اسلم کے بعد ڈاکٹر منیر احمد سلج نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر منیر احمد سلج اب تک اٹھارہ ہزار اہم پاکستانی شخصیات کی وفیات محفوظ کرنے کا کام کر چکا ہے جو ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ ڈاکٹر منیر احمد سلج کے ان کتابوں میں خفگان خاک گجرات، وفیات ناموران پاکستان، وفیات اہل قلم، تنہائیاں بولتی ہیں (آسودگان خاک اسلام آباد)، وفیات نعت گویان پاکستان، وفیات مشاہیر کراچی، بچھے چلے جاتے ہیں چراغ، وفیات مشاہیر لاہور، وفیات علماء پاکستان اور وفیات مشاہیر خیبر پختون خوا شامل ہیں۔

”وزیرستان، علمی و ادبی خدمات“ کے تحقیق کے دوران۔ کئی طوفان تھے جو سر سے گزرے کی روشنی میں ایک طوفان یہ تھا کہ ایک طرف سے وزیرستانی شخصیات کے خدمات و کردار کا سراغ بڑی مشکل سے لگایا تو دوسری جانب ان شخصیات کی رحلت کا علم نہ اپنوں کے پاس ہوتا نہ دوسروں کے ہاں، لہذا اپنی تحقیق ہی کے دوران یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وفیات نگاری کے اس فن پر ایک چھوٹی سی کتاب ”وفیات مشاہیر وزیرستان“ کے نام سے شائع کر دوں گا۔ ایک تو وفیات نگاری کے فن سے ہمارے ہاں شناسائی ہوگی، دوسری نسل نو کو اپنے اسلاف کی ولادت، وفات اور خدمات و کردار کا اندازہ ہو کر محفوظ و موجود رہے گا۔

مولانا قمر زمان داوڑ

تعلق گاؤں حیدرخیل داوڑ (تحصیل میر علی) / فاضل دیوبند / تحریک ریشمی رومال کے قبائلی علاقوں کے صدر / جمعیت علمائے ہند کے صدر / شیخ الہند کے شاگرد خاص / چار کتابوں کے مصنف / دیوبند کے Topper Student / دیوبند سے فراغت: 1923ء / فرنگی کے خلاف اولین فتویٰ نویس / وفات: جنوری 1951ء

مولانا سید اکبر خان داوڑ

تعلق اپنی کلمہ، (تحصیل میر علی) / فاضل دیوبند / پانچ کتابوں کے مصنف / دیوبند میں شعبہ حدیث کے صدر / اپنی گاؤں کے تقسیم آب کے مؤلف / دیوبند سے فراغت: 1933ء / ولادت: 1891ء / وفات: 1952ء

مولانا محمد عالم خان داوڑ

گاؤں اپنی (تحصیل میر علی) / فقیر اپنی کے اولین استاد / شمالی وزیرستان کے اولین لینڈ آرکائیو رائٹر / سوانحی عمری اور علمی و تصنیفی خدمات دست برد زمانہ ہے۔ وفات: 1954ء

مولانا عبدالحمید ہرمزی المعروف مشر مولوی

تعلق گاؤں ہرمز داوڑ (تحصیل میر علی) / فاضل دیوبند / مرید خاص تھانوی / کئی رسالوں کے مصنف / روحانی پیشوا / دیوبند سے فراغت: 1923ء / ولادت: 1892ء / وفات: اکتوبر 1966ء

مولانا محمد وارث شاہ وزیر

گاؤں منظر خیال وزیر (تحصیل دتہ خیال) / فاضل دیوبند / اخبار غازی کے ایڈیٹر / ازاد فقیر اپنی / بیرون ملک جانے والے وفد کے تاحیات سربراہ / انگریز مصنفین کے کتابوں سے اہم واقعات کے مترجم / شعلہ بیابان مقرر / انگریزی زبان کے ماہر استاد / دیوبند سے فراغت: 1933ء / وفات: 1966ء

مفتی نورالاسلام درپہ خیل

گاؤں درپہ خیل داوڑ (تحصیل میران شاہ) / اولین وزیرستانی فاضل دیوبند عالم / تین کتابوں کے مصنف / دہلی یونیورسٹی سے سند یافتہ / دیوبند سے فراغت: 1898ء / ولادت: 1880ء، وفات: 2005ء

مولانا گل منیر الخیسو رمی

گاؤں خیسو شریف (تحصیل میر علی) / فقیہ العصر عالم دین / نہ صرف وزیرستان بل کہ قبائلی اضلاع کی سطح پر سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والا عالم دین / ولادت: 1867ء، وفات: اکتوبر 1997ء

مولانا دین محمد دیوبندی

گاؤں عیسوڑی داوڑ (تحصیل میر علی) / مولانا پذیر محمد دیوبندی کے فرزند / مؤلف / حکیم / پشتونستان عبوری حکومت کے وزیر خزانہ / ڈاکٹر نجیب کے اتالیق خاص / سینئر مدرس دارالعلوم نظامیہ / وفات: 1995ء

مولانا وزیر خان دیوبندی

گاؤں حیدرخیل داوڑ (تحصیل میر علی)، جامع المعقول و المنقول عالم / وفات: 1979ء

مولانا حبیب الرحمان دیوبندی

گاؤں تپی داوڑ (تحصیل میران شاہ) / افغان ترجمان / وزیر خارجہ / چودہ زبانوں کے ماہر / کرنل ایچ سی ویلی کی کتاب From The Black Mountains To Waziristan کے مترجم / کابل میں شاہی خاندان کے اتالیق / انگلش لٹریچر میں ماسٹر ڈگری ہولڈر / جامعہ ازہر مصر، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں علوم شرقیہ (Oriental Studies) کے لیکچرر / دیوبند سے فراغت: 1933ء / وفات: جون 1978ء

مولانا یعقوب خان دیوبندی

گاؤں حسوخیل داوڑ (تحصیل میر علی) جمعیت علمائے وزیرستان کے صدر / وزیرستان میں اولین دارالافتاء کے بانی / فراغت 1947ء / ولادت: 1922ء ، وفات: 2007ء

مولانا گل محمد سپین و امی

گاؤں میر علی وزیر (تحصیل سپین وام) ، گورویک مرکز سے شائع ہونے والا اخبار پشتون رنپرا کے ایڈیٹر / جمعیت علمائے گورویک کے جنرل سیکرٹری / وزیرستان جغرافیہ نامی مقالہ کے مصنف / مشیر خاص فقیراہپی / ولادت: مئی 1923ء ، وفات: 2009ء

مولانا محمد اسحاق

گاؤں زیرکی داوڑ (تحصیل میر علی) اعلیٰ منتظم و مہتمم / ولادت: 1932ء ، وفات: جنوری 2008ء

مولانا عبداللہ ہرمزی

گاؤں ہرمز داوڑ (تحصیل میر علی) ، ماہ نامہ آذان سحر کے نام سے قبائلی اضلاع کی سطح پر اولین اردو رسالے کا ایڈیٹر / بزم درویش کے مصنف / امام العصر و شیخ التفسیر / ولادت: 1936ء ، وفات: 2015ء

مولانا محمد سبحان

گاؤں بڑوخیل داوڑ (تحصیل میر علی) مولانا مودودی کے دست راست ، قبائلی اضلاع کی سطح پر 1971ء میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھنے والا اولین شخصیت / ولادت: 1940ء ، وفات:

اپریل 2010ء

مولانا مومن خان

گاؤں حسوخیل داوڑ (تحصیل میر علی) ، اعلیٰ مقرر / ولادت: 1938ء ، وفات: 2008ء

مولانا محمد ظاہر شاہ دیوبندی

گاؤں موت خیل وزیر (بورخیل، تحصیل رزمک): چپو اکئی جھگڑے ، تختہ الصائمین ، مہمات شرعیہ کے مصنف / جرمن زبان کے ماہر / سیکرٹری اطلاعات گورویک مرکز / دیوبند سے فراغت 1933ء / ولادت: 1909ء ، وفات: نومبر 1992ء

مولانا خواجہ میر خان دیوبندی

گاؤں حسوخیل داوڑ (تحصیل میر علی) / فراغت 1936ء / ولادت: 1890ء ، وفات: 1994ء

مولانا خان میر خان دیوبندی

گاؤں حسوخیل داوڑ (تحصیل میر علی) / ولادت: 1882ء ، وفات: 1972ء

مولانا نور محمد دیوبندی

گاؤں ملاگان داوڑ (تحصیل میر علی): اعلیٰ پائے کے ہکیم اور عامل / دیوبند سے فراغت 1945ء / ولادت: 1905ء ، وفات: 1993ء

مولانا غلام حسین دیوبندی

گاؤں ہمزونی داوڑ (تحصیل میران شاہ) ، وفات: 1980ء

مولانا قاضی حبیب الرحمان

گاؤں حسوخیل داوڑ (تحصیل میر علی) جمعیت علمائے اسلام کے صدر / دارالعلوم نظامیہ کے اولین مہتمم / وفات: 1998ء

مولانا شاعر الدین دیوبندی

گاؤں منظرخیل وزیر (تحصیل دتہ خیل) ، تین کتابوں کے مصنف / قرآن مجید کے علاقائی زبان کے مترجم / بہ طور پاکستانی مندوب کئی بین الاقوامی کانفرنس میں بھی شریک رہیں / فراغت

1947ء / وفات: 2004ء

بادے فقیر

اصل نام پیاؤ نور، تعلق گاؤں حسن خیل وزیر (تحصیل سپین وام) امن پسند اور مصلحت پسند پیر / کئی انگریز مصنفین نے ان کی شخصیت اور امن پسندی پر قلم اٹھایا ہے۔ وفات: 1898ء
شیوے فقیر

اصل نام یسین گل، تحصیل شیواہ، اعلیٰ پیر فقیر / ثالث فقیر اپنی اور فرنگی حکومت / امن کے داعی / وفات: جولائی 1944ء

فقیر اپی

اصل نام میر زاعلیٰ خان، تعلق طوری خیل وزیر، تحریک آزادی کے عظیم رہنما اور حریت پسند لیڈر / پشتونستان تحریک کے بانی / جنگی ماہر، اعلیٰ شہ سوار / گورویک میں خود مختار ریاست کے حاکم / وفات: 1893ء، وفات: اپریل 1960ء تدفین: گورویک مرکز

موسکی فقیر

اصل نام حاجی محمد خان، گاؤں موسکی داوڑ (تحصیل میر علی) پیر و مرشد / افغانستان کے مشہور روحانی پیشوا نقیب صاحب کے مرید خاص / وفات: 1953ء

مفتدا صاحب

اصل نام فضل الرحمان، تعلق ڈبگی (پاک افغان سرحدی علاقہ) پیر طریقت

ولادت: 1927ء، وفات: 1994ء

علی گل خان اُستاد

تعلق حیدر خیل داوڑ (تحصیل میر علی) اعلیٰ پائے کے حکیم، پیر طریقت / ولادت: 1925ء، وفات: جنوری 2005ء

عبدالکبیر اُستاد

تعلق موسکی داوڑ (تحصیل میر علی) پیر طریقت مولانا محمد کبیر کے فرزند / وفات: مئی 2020ء

مولانا محمد دین دار

گاؤں حوسخیل داوڑ (تحصیل میر علی) سابق ایم این اے / جمعیت علمائے اسلام کے صدر / تحریک اتحاد قبائل کے بانی / ولادت: اگست 1937ء، وفات: اکتوبر 2011ء

مولانا شیر جاعلیٰ خان

گاؤں حیدر خیل داوڑ (تحصیل میر علی) اعلیٰ حکیم و عامل جنات / مولانا احمد علی لاہوری کے شاگرد خاص / ترجمہ لاہوری کے مؤلف، ولادت: 1915ء، وفات: 2009ء

ملاجی

اصل نام مولانا محمد حسن، گاؤں بڑوخیل داوڑ (تحصیل میر علی) فی البدیہہ شاعر / وزیرستان میں چار بیتہ کا امام / ولادت: 1917ء، وفات: مارچ 1989ء

مولانا عبدالرحمن وزیر

تحصیل شیواہ، جمعیت علمائے اسلام کے صدر / مکتبہ شیخ الہند بنوں کے بانی و منتظم / وفات: 2020ء

وفیات مشاہیر صوفیائے و مشائخ

وزیر ملّا صاحب

اصل نام، گلاب دین المعروف وزیر ملّا، تعلق سرکی خیل وزیر (جنوبی وزیرستان) علاقہ داوڑ میں گاؤں حیدر خیل ہجرت کی فرنگی کے خلاف برسر پیکار جنگی مجاہد / دس ہزار لشکر کے امیر / خاندان آج بھی حیدر خیل داوڑ (تحصیل میر علی) اور بنوں میں رہائش پذیر ہیں / وفات: 1893ء

تدفین: مہند خیل وزیر، بنوں

لائق شاہ درپہ خیل

تعلق گاؤں درپہ خیل داوڑ (تحصیل میران شاہ) وزیرستانی ادب کے سرخیل ، تاریخ وزیرستان ، مٹلا پاونڈہ ، غریو ، توچی پچے پچے ، زندان ، سفرنامہ جیسے عظیم تاریخی ، علمی و ادبی فن پاروں کے خالق ، قبائلی مشر ، ولادت: جون 1935ء ، وفات: مئی 2012ء

محمد ظریف خان المعروف انجینئر مسرور داوڑ

تعلق گاؤں ہرمز داوڑ (تحصیل میر علی) اعلیٰ شاعر، ادیب ، تین شعری مجموعوں اور کئی نثری تخلیقات کے مصنف ، ولادت: اپریل 1959ء ، وفات: جنوری 2019

محمد احسان فدا

تعلق گاؤں داوڑ چشمہ کلہ (تحصیل میران شاہ) ، د زپنیں درہ (شعری مجموعہ) کے شاعر ، ولادت: جنوری 1972ء ، وفات: فروری 2008ء

اُستاد جمال نور

تعلق گاؤں موسکی داوڑ (تحصیل میر علی) ، شعری مجموعہ آمیل د حُسن کے مصنف ، بانی و منتظم ، توچی ادبی ٹولہ میر علی ، ولادت: 1946ء ، وفات: دسمبر 2018ء

وفیات مشاہیر شعراء / ادباء

خان میر خان ناز

تعلق ، داوڑ میران شاہ کلہ ، سہ زبان شاعر، ادیب ، علوم شرقیہ کے عالم فاضل ، شاعر مشرق علامہ اقبال ، حفیظ جالندھری ، فیض احمد فیض کے صحبت نشین شاعر ، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے ادبی خدمات کے بدلے ایوارڈ سے بھی نوازا تھا۔ شمالی وزیرستان کے ادبی معمار ، وزیرستان کے نامور شاعر ، ادیب ، نثر نگار پروفیسر جاوید جان کے والد ماجد ، ولادت: 1908ء ، وفات: 1990ء

رشید علی دھقان

تعلق گاؤں ہرمز داوڑ (تحصیل میر علی) ، ناول / ڈراما د سرو تعویذ کے مصنف ، ہمہ جہت شاعر ، ادیب ، افسانہ نگار ، انشائیہ نگار ، خاکہ نگار ، مضمون نگار ، ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان ، ولادت: اپریل 1926ء ، وفات: 1972ء

اختر علی ماسٹر

تعلق گاؤں ہرمز داوڑ (تحصیل میر علی) دل شکستہ شاعر ، کلام غیر مطبوعہ ، ولادت: 1945ء ، وفات: 1970ء

گل دار علی راہی جان

تعلق گاؤں موسکی داوڑ (تحصیل میر علی) تین شعری مجموعوں کے خالق ، سابق ایجنسی ایجوکیشن آفیسر ، ولادت: جنوری 1952ء ، وفات: 1998ء

حافظ غنی گل آمین

تعلق گاؤں خدی داوڑ (تحصیل میر علی) نعتیہ مجموعہ د مینے اظہار کے مصنف ، ولادت: 1954ء ، وفات: 2008ء

ملک بہرام المعروف باروم طوری خیل

تعلق گاؤں شامیری وزیر (تحصیل سپین وام) ، وزیرستان میں پبلک ٹرانسپورٹ کے جاری کردہ اولین شخصیت ، فقیر اپنی سرکردہ غازی ، ولادت: 1905ء ، وفات: 1972ء

ملک محمد جان وزیر المعروف ماما جان

تعلق طوری خیل قبیلہ گاؤں میر علی وزیر (تحصیل میر علی) ، پتھی اڈا کے قریب ماما جان کوٹ سے مشہور خاندان ، طوری خیل قبیلہ کے منجھے ہوئے قبائلی رہنما وفات: 1985ء

ملک میر صادق جان داوڑ المعروف لالی

تعلق گاؤں خدی داوڑ (تحصیل میر علی) لالی کوٹ کے نام سے مشہور بڑا خاندان ، معروف قبائلی رہنما وفات: 1984ء

ملک خاندان وزیر

تعلق گاؤں مدان خیل وزیر ، خطاب: چیف آف وزیرستان ، قیام پاکستان سے قبل وزیر قبیلہ سے اولین کانگریس پارٹی میں شامل رہنما ، قیام پاکستان کے بعد کانگریس کو خیر باد کہا اور پاکستان کے ساتھ وفاداری کا کھلم کھلا اعلان کیا ، فقیر اپنی کے بعد اتمان زئی کے امیر لشکر ، ملی ، قومی ، علاقائی خدمات پر حکومت پاکستان نے چیف آف وزیرستان کے خطاب سے نوازا ، نہایت زیرک اور بے باک قبائلی رہنما ، مقامی گیتوں میں بھی زبردست خراج تحسین ، وفات: 1986ء

ملک بادشاہ خان داوڑ

تعلق گاؤں زیرکی داوڑ (تحصیل میر علی) بادشاہ خان کوٹ سے مشہور خاندان ، سیاسی و سماجی رہنما کے طور پر فعال قبائلی مشر ، وفات: اکتوبر 1981ء

ملک گل جان وزیر

تعلق گاؤں میر علی وزیر (تحصیل سپین وام) ، پشتون دنپرا کے ایڈیٹر مولانا گل محمد سپین وامی کے چچا ، فقیر اپنی کے سرکردہ غازی ، وفات: 1986ء

وفیات مشاہیر شخصیات

جرنیل شودی خیل داوڑ

تعلق گاؤں ہمزونی داوڑ (تحصیل میران شاہ) ، تحریک آزادی کے صف اول کے نامور مجاہد ، افغان بادشاہ نادر شاہ کی طرف سے بہادری کے صلے میں جرنیل کا خطاب یافتہ رہنما۔ بچہ سقہ کے خلاف کابل شہر پر اولین قابض جرنیل ، قیام پاکستان سے قبل قبیلہ داوڑ کے اولین سربراہ وفات: 1941ء

ملک میر جانی درپہ خیل

تعلق گاؤں درپہ خیل داوڑ (تحصیل میران شاہ) ، وزیرستان میں ملی ، سیاسی اور سماجی تحریکوں کے سرخیل ، قیام پاکستان سے قبل اولین کانگریس پارٹی میں شامل رہنما ، باچا خان بابا ، گاندھی جی ، پنڈت نہرو کے دیرینہ ساتھی ، فقیر اپنی کے سیاسی و سماجی امور کے صلاح کار وفات: 1948ء

ملک صادقی کابل خیل وزیر

تعلق گاؤں المارہ وزیر (تحصیل شیواہ) ، قیام پاکستان سے قبل وزیر قبیلہ سے پاکستان مسلم لیگ میں شامل اولین رہنما ، سیاسی و سماجی امور کے ماہر شخصیت وفات: 1975ء

ملک میر صادق خان داوڑ

تعلق گاؤں حسو خیل داوڑ (تحصیل میر علی) ، قیام پاکستان سے قبل داوڑ قبیلہ سے پاکستان مسلم لیگ میں شامل اولین رہنما ، لقب جین بادشاہ جرنیل شودی خیل داوڑ نے دیا تھا ، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے دیرینہ ساتھی ، قائد اعظم ریلیف فنڈ کے اولین ڈونر ، وفات: 1975ء

ملک علی مرجان ہرمز

تعلق گاؤں ہرمز داوڑ (تحصیل میر علی) ، مولانا ابوالکلام آزاد اور فلسفی شاعر غنی خان کے میزبان اور دیرینہ ساتھی ، فقیر اپنی کے بیرون ملک منتخب کردہ سفیر ، کانگریس پارٹی میں شامل دوسرا وزیرستانی رہنما ، وفات: 1976ء

داوڑ خان المعروف داوڑی ملک

تعلق گاؤں عیسوڑی داوڑ (تحصیل میر علی) داوڑ تپی زاد کے مشر، وزیرستانی لوک ادب میں یاد کئے جانے والا رہنما وفات: 1988ء

میجر (ر) قلندر شاہ داوڑ

گاؤں میران شاہ کلمہ، سرزمین وزیرستان سے اولین پاک فوج آفیسر، آپ بیتی کے مصنف، ولادت: اگست 1924ء، وفات: جنوری 2020ء

مختار زمان اُستاد

تعلق گاؤں حیدر خیل داوڑ (تحصیل میر علی) ، وزیرستان میں اولین پبلک سکول کے معمار، تقسیم آب اور پٹوار خانہ کا ہندی زبان سے اردو ترجمہ نگار، اعلیٰ خطاط، خوش الحان قاری، ولادت: 1931ء، وفات: اگست 1993ء

خلیفہ عبدالطیف طوری خیل

تعلق گاؤں میر علی وزیر (تحصیل سپین وام) ، پشتونستان تحریک کے بانی رکن، جرمنی میں پاک افغان وفد کے سربراہ، وفات: 1998ء

خلیفہ گلا خان مداخیل

تعلق مداخیل وزیر، ثالث فقیر اپنی اور حکومت پاکستان، سابق صدر سکندر مرزا سے ملاقات کے وفد کے سربراہ وفات: 2000ء

ملک خان میر داوڑ

تعلق گاؤں حیدر خیل داوڑ (تحصیل میر علی) ، ولادت: 1878ء ، وفات: دسمبر 1998ء

ملک طوطی گل داوڑ

تعلق درپہ خیل داوڑ (تحصیل میران شاہ) ، وفات: جون 2006ء

سینیٹر مرعی

گاؤں درپہ خیل داوڑ (تحصیل میران شاہ)، اصل نام حاجی سعد اللہ خان، سابق سینیٹر وفات: 1992ء

ملک سلطان محمود المعروف ممدے ملک

تعلق گاؤں محمد خیل داوڑ (تحصیل دتہ خیل) ، حکومت پاکستان نے چیف آف داوڑ کا خطاب دیا تھا، نہایت زیرک قبائلی مشر وفات: 2009ء

سینیٹر عبدالمتین وزیر

تعلق گاؤں بورا خیل وزیر (تحصیل میر علی) ، سابق سینیٹر، وزیرستان کے نامور فاضل دیوبند عالم دین اور خپلواکتی جھنگر کے مصنف مولانا محمد طاہر شاہ کا بھتیجا، وفات: 2008ء

ملک قادر خان وزیر

تعلق گاؤں شیرنی مداخیل وزیر، ملک خاندان کے فرزند، دانش ور قبائلی رہنما وفات: مئی 2014ء

امیر نیاز علی خان المعروف امیر صاحب

تعلق مدی خیل وزیر، سجادہ نشین فقیر اپنی، قبائلی معاملات و تنازعات کے ماہر شخصیت ،

ولادت: 1934ء ، وفات: 2003ء

ملک عنایت خان داوڑ

تعلق گاؤں محمد خیل داوڑ (تحصیل دتہ خیل) ، نامور قبائلی رہنما، معاملات و تنازعات کے ماہر قبائلی ملک ، ولادت: 1937ء ، وفات: 2010ء

ملک محمد اجمل خان وزیر

تعلق مداخیل وزیر، وزیرستان کے مشہور شخصیت اور سابق MNA ملک جہانگیر خان کے فرزند ، دودفعہ وفاقی وزیر کھیل و پٹرولیم ، وفاقی وزیر بلدیات وفات: اکتوبر 2010ء

حاجی ارسلان خان

تعلق گاؤں حسوخیل داوڑ (تحصیل میر علی) سابق ایم این اے وفات: 2012ء

ملک فضل حمید داوڑ

تعلق گاؤں خدی (تحصیل میر علی) ، تحصیل دار، ملی قائد، قوم پرست لیڈر، ANP کے صدر، تحریک اتحاد قبائل کے سینئر ممبر، وزیرستان میں باچا خان کے اولین برسی منانے والی شخصیت ،

حیات اللہ خان داوڑ

تعلق گاؤں ہرمز داوڑ (تحصیل میر علی)، وزیرستان کی اولین شہید صحافی / کینیڈین اور پاکستان پریس فاؤنڈیشن ایوارڈ یافتہ صحافی اور فوٹو گرافر / روزنامہ اوصاف اور روزنامہ بغاوت کے نامہ نگار / ولادت: 1976ء ، وفات: جون 2006ء

ملک ممتاز شہید

تعلق گاؤں میران شاہ کلد، میران شاہ پریس کلب کے سابق صدر، روزنامہ ڈان اور روزنامہ جنگ کے نامہ نگار، وفات فروری 2013ء

ڈاکٹر نور رحمان داوڑ

تعلق گاؤں حیدرخیل داوڑ (تحصیل میر علی)، مولانا قمر زمان دیوبندی کے فرزند / 22 سالہ انگلینڈ میں ملازمت و رہائش / انگلینڈ کارڈ ہولڈر شخصیت / خاندان تاحال انگلینڈ میں مقیم۔ وفات:

اپریل 2016ء

غازی محمد

گاؤں داوڑ چشمہ کلد (تحصیل میران شاہ)، فض النساء کے مصنف، ایوارڈ یافتہ قلمی نسخہ،

ولادت: 1963ء ، وفات: نومبر 2017ء

ڈاکٹر تیمور شاہ داوڑ

گاؤں خدی داوڑ (تحصیل میر علی)، روس میں عوامی نیشنل پارٹی کے صدر، وفات: دسمبر 2019ء

ولادت: 1954ء ، وفات: دسمبر 2010ء

ملک معمور خان وزیر

تعلق گاؤں سپلگہ (تحصیل میران شاہ)، چیف آف طورہ خیل، وزیرستان کے نامور رہنما ملک دریا خان کے فرزند (ملک دریا خان کو سابق صدر ایوب خان نے گولڈ میڈل اور چیف آف اتھان زئی کا خطاب دیا تھا) 2006ء میں آل فائبر ایسوسی ایشن کے سربراہ، وفات: اکتوبر 2006ء

ڈاکٹر نور جنت گل داوڑ

تعلق گاؤں موسکی داوڑ (تحصیل میر علی)، وزیرستان میں اولین پرائیویٹ اسپتال کے بانی، قبائلی مشر، ولادت: فروری 1950ء ، وفات: دسمبر 2009ء

لائق الرحمان داوڑ

تعلق گاؤں حسونیل داوڑ (تحصیل میر علی)، لیکچرار انگلش، بعد ازاں سی ایس ایس پاس کر کے کمشنر ٹانک، کمشنر سوات، کمشنر ایبٹ آباد، کمشنر کی مروت، کمشنر بولان، پولیٹکل ایجنٹ ژوب، ڈی سی اونوشہرہ، چارسدہ، ڈپٹی سیکرٹری (انڈسٹری ڈیپارٹمنٹ KP)، ولادت: اپریل 1953ء

، وفات: دسمبر 2005ء

حاجی میر عالم خان

تعلق گاؤں ہرمز (تحصیل میر علی)، میر علی میں حاجی میر عالم خان بک سیلرز کے نام سے معروف،

وفات: 2017ء

ایس بی طاہر داوڑ شہید

تعلق گاؤں خدی (تحصیل میر علی) شاعر، ادیب، محو درد و نین مے لوہکے شاعر (مطبوعہ کلام)، ڈائریکٹر ایف آئی اے، ڈی پی او کوہاٹ، ڈی ایس پی پشاور، اقوام متحدہ میں پاکستانی امن مندوب، دورہ جات بہ طور پاکستانی نمائندہ مراکش، سوڈان، امریکہ، تمنغہ محسن کارکردگی KP پولیس،

ولادت: دسمبر 1968ء ، وفات: اکتوبر 2018ء

- (۱) وزیرستان، علمی و ادبی خدمات (وزیرستان انسائیکلو پیڈیا)
- (۲) وزیرستان، شعر و ادب کی مختصر تاریخ (تحقیق)
- (۳) قبیلہ داؤڑ، پس منظر و پیش منظر (تحقیق)
- (۴) اک تھا زمانہ نازکا (اردو شعری مجموعہ)

وفیات مشاہیر خواتین

ہانسہ بی بیؒ

تعلق طوری خیل وزیر گاؤں خینو شریف (تحصیل میر علی)، فقیرا پٹی کے تحریک کے سرگرم خاتون، فقیرا پٹی کے خطوط و مکاتیب کے قاصد، وفات: 1960ء کی دہائی

بی بی مریمؒ

تعلق طوری خیل وزیر گاؤں خینو شریف (تحصیل میر علی)، مولانا گل منیر الجیسوری کی صاحب زادی، عالمہ و فاضلہ اور پرہیزگار خاتون، وفات: 2003ء

زیتونہ بی بیؒ المعروف تینہ

تعلق گاؤں موسکی داؤڑ (تحصیل میر علی)، وزیرستان کے نامور روحانی پیشوا اور پیر عالی حاجی محمد خان المعروف موسکی فقیر کی صاحب زادی، عالمہ و فاضلہ اور پرہیزگار خاتون، وفات: 1996ء

ڈاکٹر سیمی فیاضؒ داؤڑ

تعلق میران شاہ کلد (تحصیل میران شاہ)، امریکی شہریت کی حامل یافتہ خاتون، امریکہ میں مقیم میں ڈاکٹر محمد اکبر داؤڑ کی صاحب زادی، وفات: 2017ء

Coming Soon

**Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library**